

English

Lantern for pillar candle

IMPORTANT!

Use only 1 single wick pillar candle with a maximum height of 15 cm (6") and a maximum diameter of 7 cm (2 ¾").

The distance between the lantern's top and any combustible material above it must be at least 50 cm.

IMPORTANT!

The lantern can get hot. Place it on a fireproof, heat-resistant material, a safe distance away from combustible materials. Never leave a lit candle unattended. Do not drop any objects, incl. matches, on the candle. Extinguish by snuffing out the flame.



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español

Farol para vela gruesa

IMPORTANTE:

Utiliza únicamente 1 vela de una altura máxima de 15 cm y un diámetro máximo de 7 cm.

La distancia entre la parte superior del farol y el material combustible que haya encima debe ser de 50 cm como mínimo.

¡IMPORTANTE!

El farolillo puede calentarse mucho. Colócalo sobre un material ignífugo y resistente al calor, a una distancia segura de materiales combustibles. No dejes nunca una vela encendida sin vigilancia. No dejes caer ningún tipo de objeto, incl. cerillas, en la vela. Apaga la vela sofocando la llama

Portugues

Lanterna para velas grossas

IMPORTANTE!

Use apenas 1 vela grossa com uma altura máxima de 15cm e um diâmetro máximo de 7cm.

A distância entre o topo da lanterna e qualquer material combustível deve ser de pelo menos 50cm.

IMPORTANTE!

A lanterna pode aquecer. Coloque-a sobre um material não inflamável e resistente ao calor, a uma distância segura de materiais combustíveis. Nunca deixe uma vela acesa sem vigilância. Não deixe cair objectos, incluindo fósforos, sobre a vela. Apague extinguindo a chama.

中文

阔形蜡烛灯罩

重要须知!

仅适用1个单芯柱形烛，且蜡烛的最大高度不超过15cm（6英寸），最大直径不超过7cm（2¾英寸）。

蜡烛灯罩的顶部距离其上方的可燃物至少50cm。

重要事项!

蜡烛灯罩会变热。将它放在远离易燃材料的防火、耐热材料上。禁止将点燃的蜡烛置于无人看管之下。不要将包括火柴在内的任何物品掉落在蜡烛上。以熄灭火焰的方式熄灭蜡烛。

繁中

柱狀蠟燭燭台

重要資訊!

只能使用一個1芯柱狀蠟燭(最高高度15公分，最大直徑7公分)。

燭台頂端與上方的任何可燃材質至少須距離50公分。

重要訊息!

由於燭台會變熱，請將燭台懸掛或放置於防火耐熱材質上，與可燃物質保持安全距離。離開時不可留下點燃中的蠟燭。不可將任何物品丟在蠟燭上，包括火柴。請弄熄燭火。

한국어

양초 랜턴

중요!

심지가 1개 있는 양초L를 사용하세요. 사용 가능한 최고 높이는 15cm(6"), 최대 지름은 7cm(2 ¾")입니다.

가연성 물질과 랜턴 윗부분은 최소 50cm 간격을 유지하세요.

중요!

랜턴은 사용 시 매우 뜨거워 집니다. 내화, 내열성 받침 위에 올려 놓고, 가연성 재질로부터 안전한 거리에 두세요. 불이 붙은 초를 방치하지 마세요. 초 위에 성냥을 비롯한 어떠한 물건도 떨어뜨리지 마세요. 불꽃은 덮어서 꺼 주세요.

日本語

ブロックキャンドル用ランタン

注意!

高さ15cm(6インチ)以下、直径7cm(2 ¾インチ)以下のピラーキャンドル(芯1本)を1つだけ使用してください。

ランタンの上端部から、上方の可燃物までの間隔は、必ず50cm以上おけてください。

重要!

ランタンは熱くなります。耐火・耐熱性素材の上に置いてください。燃えやすいものを近くに置かないでください。火を灯している間はそばを離れないでください。マッチの燃え殻などをキャンドルの上に落とさないでください。火を消すときはキャンドル火消しなどを使い、安全な方法で消してください。

Bahasa Indonesia

Lanterna untuk lilin pilar

PENTING!

Gunakan hanya 1 lilin pilar satu sumbu dengan tinggi maksimal 15 cm (6") dan diameter maksimal 7 cm (2 ¾").

Jarak antara bagian atas lanterna dan bahan yang mudah terbakar di atas minimal harus 50 cm.

PENTING!

Lanterna dapat menjadi panas. Tempatkan pada bahan tahan api, tahan panas, pada jarak aman jauh dari bahan mudah terbakar. Jangan pernah meninggalkan lilin menyala tanpa pengawasan. Jangan menjatuhkan benda apapun pada lilin, termasuk korek api. Padamkan dengan meniup sumbu api.

Bahasa Malaysia

Lanterna untuk lilin blok

PENTING!

Guna hanya lilin blok dengan ketinggian maksimum 15 cm (6") dan diameter maksimum 7 cm (2 ¾").

Jarak di antara bahagian atas lanterna dan mana-mana bahan mudah terbakar di atasnya mestilah sekurang-kurangnya 50 sm.

PENTING!

Lanterna boleh menjadi panas. Letakkannya pada bahan kalis api, tahan haba, dan jauhkan daripada bahan mudah terbakar. Jangan biarkan lilin menyala tanpa seliaan. Jangan jatuhkan sebarang objek, termasuk mancis pada lilin. Padamkan lilin dengan memadamkan api pada sumbu.

عربي

مشكاة لقالب شمع

مهم!

أستخدمي قالب شمع واحد فقط إرتفاعه الأقصى 15 سم (6 بوصة) وقطره الأقصى 7 سم (2 3/4 بوصة).

ينبغي وجود مسافة بين الشمعدان وأي شي قابل للإحتراق أعلاها بما لا يقل عن 50 سم.

هام:

يمكن للمبة أن تصبح ساخنة, ضعها في مكان ضد الحريق ومقاوم للحرارة وعلى بعد مسافة كافية من المواد القابلة للاحتراق. لا تترك أي شمعة مشتعلة بجوارها. لا تلقي بأي جسم على الشمعة بما فيه الكبريت. للإطفاء, قم بتبديد اللهب.

ไทย

โคมใส่เทียนแท่ง

ข้อความสำคัญ

ใช้ใส่เทียน 1 ใส่เทียนที่มีความสูงไม่เกิน 15 ซม. (6 นิ้ว) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 7 ซม. (2.75 นิ้ว) เท่านั้น เพลวเทียนควรอยู่ห่างจากวัตถุที่ติดไฟได้น้อย 50 ซม.

สำคัญ

โคมอาจร้อนขณะใช้ ให้วางโคมไว้บนวัสดุกันร้อนและกบไฟ และวางให้ห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ ห้ามจุดเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่เด็ดขาด อย่าทิ้งไม้ขีดไฟ หรือสิ่งอื่นลงบนเปลวเทียน และดับเทียนให้สนิท

Tiếng Việt

Lồng đèn dành cho nến thường

QUAN TRỌNG!

Chỉ sử dụng 1 nến trụ bắc đơn có chiều cao tối đa 15 cm (6") và đường kính tối đa 7 cm (2 ¾").

Khoảng cách an toàn giữa đỉnh lồng đèn và các vật liệu dễ bốc cháy là ít nhất 50 cm.

QUAN TRỌNG!

Lồng đèn có thể trở nên rất nóng. Đặt đèn lên vật liệu chống cháy và chịu nhiệt, và cách các vật liệu dễ cháy một khoảng an toàn. Tuyệt đối không để nến cháy mà không có sự giám sát. Không thả các vật thể, như diêm, vào nến. Tắt nến bằng cách dập tắt ngọn lửa.